

شېۋازى راپىرسى :

چۈنئەتى ئەنجامدانى راپىرسى :

پىركردنەۋەى فۇرمى راپىرسى بە چەند شېۋازىك ئەنجام دەدرېت كە برىتتىن لە :
۱- پىركردنەۋەى فۇرمى راپىرسى لە لايەن ئەۋ كەسەى پىرسىيارەكان ئاراستەى كەسانى
دىكە دەكات :

لەم شېۋازە " پىرسكار " (ئەۋ كەسەى پىرسىيارەكان ئاراستەى كەسانى دىكە دەكات) بە شېۋەى راستەۋخۇ لە گەل ۋەلامدەر قسە دەكات ،ۋاتا پىرسىيارەكانى ئاراستە دەكات ۋەلامەكانى ۋەلامدەر لە جىگەى تايبەت كراۋ بۇ ھەر ۋەلامىك دەنوسىت . لەم شېۋازە پىرسكار چەمك ۋە ئامانجى پىرسىيارەكان بۇ ۋەلامدەر شى دەكاتەۋە ۋەلامى پىۋىستلە ۋەلامدەر ۋەردەگرېت . ئەم شېۋازە بە تايبەتى بۇ ئەۋ ۋەلامدەرەنە زۇر باش ۋە گونجاۋە كە خويىندەۋارىيان نىە .

۲- پىركردنەۋەى فۇرمى راپىرسى لە لايەن ۋەلامدەر :

لەم شېۋازە فۇرمى راپىرسىيەكان رادەستى ۋەلامدەر دەكرېت بۇ ئەۋەى خۇى فۇرمى پىرسىيارەكان پىركىتەۋە . لەم شېۋازە ئەگەرى ئەۋە ھەيە كە ۋەلامدەر لە مەبەستى سەرەكى پىرسىيارەكان بە باشى تىنەگات يان ۋەلامدەر پىرسىيارەكان بە تەۋاۋى ۋەلام نەداتەۋە يان فۇرمى راپىرسى بۇ توۋىژەر نەگەرېتەۋە .

۳- پىركردنەۋەى فۇرمى راپىرسى لە رىگەى پۇست يان پۇستى ئەلىكتىرۇنى :

بە شېۋەيەكى گشتى كاتىك توۋىژەر ئەم شېۋازە بە كار دىنېت كە كەسانىك نەبن بۇ ئەۋەى يارمەتى بدەن فۇرمەكانى راپىرسى لە نىۋان خەلك دابەش بكات . لەم شېۋازە ئەگەرى ۋەلامنەدانەۋە بە پىرسىيارەكان يان نەھاتنەۋەى فۇرمەكان زىاترە . توۋىژەر بۇ ئەۋەى بتوانىت لەم شېۋازە سەرکەۋتوۋ بىت دەبىت دووجار يان زىاتر لە دووجار نامە بۇ ئەۋ كەسانە بنىرېت كە ۋەلامىيان نەداۋەتەۋە تا ئەۋ كاتەى ۋەلام ۋەردەگرېت .

لايه نه ئه رينيه كانى راپرسى :

- ۱- له ريگه راپرسى زانياريه كى فراوان به خيراى كۆده كرېته وه .
- ۲- وه لامدانه وه به فۆرمى راپرسى پيويستى به كاتيكيكه م ههيه .
- ۳- خه رجي و تپچووى تا راده يه ك كه مه .
- ۴- ده توانرېت پرسىار له كه سانى زۆر تر بكرېت .

لايه نه نه رينيه كانى راپرسى :

- ۱- ئه م شيوازه بو ئه و بابته تانه باش نيه كه بمانه ويٽ توپژينه وه يه كى ورد و قوولى له سه ر بكه ين .
- ۲- ئه گه رى نه گه رانده وه و نه هاتنه وه ي فۆرمه كانى راپرسى به تاييه ت ئه وانه ي له ريگه ي پۆست يان پۆستى ئه ليكترونى ره وانه ده كرېن ، زۆره .
- ۳- ئه گه ر هه يه وه لامده ر به باشى له چه مك و ناوه رۆكى پرسىاره كان تينه گات .
- ۴- له هه نديك له توپژينه وه كان به هۆى فراوانى رووبه رى جوگرافىايى و به كارهيئانى كه سانى زۆر بو ئه نجامدانى راپرسى ئه گه رى رودانى هه له زياد ده بيٽ كه ئه مه يه كيك له و هۆكارانه يه كه ده بيته هۆى كه مبوونه وه ي متمانه به م شيوازه .

شيوازى چاوپيكيه وتن :

- له م شيوازه زانياريه كانى توپژينه وه له ريگه ي په يوه ندى راسته وخۆى نيوان توپژه ر و وه لامده ر(واتا ئه و كه سه ي چاوپيكيه وتنى له گه ل ده كه ين) ، كو ده كرېته وه . كه واتا چاوپيكيه وتن دىالوگيكي دوولايه نه يه كه به خستنه رووى پرسىار له لايه ن توپژه ر يان پرسىاركار به مه به ستى كو كرده وه ي زانياريه كان ده ست پيئده كات . ئه م شيوازه ده توانين به شيوه ي رووبه روو يان په يوه ندى ته له فونى يان موباييل ئه نجام بده ين .
- ئه و خالانه ي كه توپژه ر ده بيٽ له كاتى ئه نجامدانى چاوپيكيه وتن ره چاويان بكات :**
- ۱- چاوپيكيه وتن نابيٽ مه ترسى له سه ر ئه و كه سه دروست بكات كه چاوپيكيه وتنى له گه لدا ده كرېت .

- ۲- توئۇزەر دەبىت كەسى بەرامبەرى لە ئامانجەكانى چاوپىكەوتن و ھۆكارەكانى ھەلبۇزاردنى ئەو كەسە بۇ ئەم چاوپىكەوتنە ئاگادار بكا تەوہ .
- ۳- ئەو كەسەى چاوپىكەوتنى لە گەل دەكرىت دەبىت لە چۆنئەتى كۆكردنەوہى زانىارىيەكان ئاگادار بىت و شىوازەكەى بەلاوہ پەسەند بىت واتا مافى خۆئەتى بزانىت كە كۆكردنەوہى زانىارىيەكان لە رىگەى نووسىن ، ھىمالىدان ، تۆماركردن ، وئىنەگرتن يان ھەر شىوازىكى دىكەئە .
- ۴- لە ھەندىك بابەتى ھەستىار توئۇزەر دەبىت متمانەى كەسى بەرامبەرى بەدەست بىنئىت و دلئىاي بكا تەوہ كە بىرۇبۇچوونەكانى بە نھىنى دەمىنئەتەوہ . بە مەبەستى بەدەستھىنانى متمانەى كەسى بەرامبەر دەبىت پىشتەر پەئوہەندى پىوہ بكەئىن .
- ۵- توئۇزەر دەبىت ھەول بىت كە شىكى دۇستانە بەسەر گەتوگۇكاندا زال بكات و بەم شىوازە رىگرى بكات لە ماندووبوونى كەسى بەرامبەرى ھەرۇہا ھىمىن و ئارام بىت و ھەست بە ماندووبوون نەكات .
- ۶- توئۇزەر دەبىت بى لايەنى خۆى لە پىرۇسەى چاوپىكەوتن بپارىزىت و لە خستەرووى بۇچوونەكانى دەربارەى ئەو بابەتەى چاوپىكەوتنى لەسەر دەكات خۆى بە دوور بگرىت بەپىچەوانەوہ ئەو كەسەى چاوپىكەوتنى لە گەلدا ئەنجام دەدرىت دەتوانىت بە شىوازىك وەلامى پىسىارەكان بداتەوہ كە مەبەستى بەدەستھىنانى رەزامەندى توئۇزەر بىت .
- ۷- ئەگەر ئەو كەسەى چاوپىكەوتنى لە گەل ئەنجام دەدرىت نەئىتوانى يان نەئوئىست لەسەر بابەتىك قسە بكات توئۇزەر نابىت لەسەر ئەو بابەتە بەردەوام بىت و يەكسەر و بەخىرايى ئاراستەى پىسىارەكان بۇ تەوہرىكى دىكە بگورىت .
- ۸- باشتر وايە توئۇزەر لە روى زمان و كلتور لە گەل وەلامدەر جىاوازيان نەبىت يان لە يەك نرىك بن لە بەر ئەوہى لە مەبەستى سەرەكى و دروستى وەلامەكانى تىبگات .
- ۹- توئۇزەر دەبىت پىش چاوپىكەوتنەكە پىسىارەكانى لەبەر كرىبىت و بىانزانىت و بە شىوہىەكى لۇژىكى و يەلەدوای يەك بىانخاتە روو .
- ۱۰- توئۇزەردەبىت خۆى بپارىزىت لە تىكەل كىردنى بۇچوونەكانى خۆى لە گەل

وہ لاماہ کانی وہ لاماہ روو لہ کاتی نووسینی وہ لاماہ کان تہنہا وتہ کانی کہسی بہ رامبہر بنووسیتہ وہ .

۱۱- لہ کاتی ئہ نجامدانی چاویپیکہ وتن نابیت ہیچ کہسیکی دیکہ بیجگہ لہ و کہسہ یان کہسانہی کہ چاویپیکہ وتنیان لہ گہل دہ کریت بوونیان ہہ بیت ئہ مہش بہ مہ بہستی پاراستنی ہیمنی و لہ دہستنہ دانی تہرکیزی وہ لاماہ ران .

۱۲- دواہی تہ و او بوونی چاویپیکہ وتن توپژہر دہ بیت یہ کسہر سہیری وہ لاماہ کان بکات بوئہ وہی ئہ گہر وہ لاماہی پرسیاریک نہ درابیتہ وہ ئاراستہی وہ لاماہری بکات و وہ لاماہی پیویست وہر بگریٹ .

لایہ نہ ئہ رینیہ کانی چاویپیکہ وتن :

۱- ئہم شیوازہ بوئ توپژینہ وہیہ کی ورد و قوول زور گونجاوہ لہ بہر ئہ وہی ژمارہی ئہو کہسانہی توپژینہ وہیہ یان لہ سہر دہ کہین کہمن ، کہواتا توپژینہ وہیہ کہ لہ روی فراوانیہ وہ کہ مہ بہ لام زور بہ وردی باس لہ ہہ موو لایہ نہ کانی بابہ تہ کہ دہ کات .

۲- ئہم شیوازہ زور گونجاوہ بوئ توپژینہ وہیہ لہ سہر کوئمہ لگہ یہ ک کہ خویندہ واری پیویستیان نیہ لہ بہر ئہ وہی ناتوانن بوئ نموونہ فورمی راپرسی بخویننہ وہ و پری بکہ نہ وہ .

۳- ئہو کہسہی چاویپیکہ وتنی لہ گہلدا دہ کریت بہ باشی لہ ئامانجی پرسیارہ کان و توپژینہ وہیہ کہ ئاگادار دہ بیتہ وہ لہ بہر ئہ مہ ئہ گہری زورہ توپژہر وہ لاماہی گونجاو بوئ پرسیارہ کانی توپژینہ وہیہ کہی بہ دہست بہینیت .

۴- ژینگہ یہ کی لہ بار و دوستانہ لہ نیوان توپژہر و وہ لاماہر دروست دہ بیت کہ دہ بیتہ ہوی ئہ وہی وہ لاماہر هاوکاری پیویستی توپژہر بکات بوئ گہ بیشتن بہ ئامانجہ کانی توپژینہ وہ .

لایہ نہ نہ رینیہ کانی چاویپیکہ وتن :

۱- ئہم شیوازہ کاتیکی زوری پیویستہ چونکہ بہ وردی لہ سہر بابہ تہ کہ توپژینہ وہ

دەكات .

۲- ئەو زانىارى و دەرەنجامانەى لە شىۋازى چاوپىكەوتن كۆدەكرىنەوہ ناكرىت وەكو دەرەنجامەكانى شىۋازى راپرسى بۇ كۆمەلگە يان نموونەيەكى دىكە گەشتاندى بۇ بكەين چونكە لە چاوپىكەوتن لەسەر بابەتتىكى ورد زانىارى كۆدەكرىتەوہ و تەنھا دەتوانىن دەرەنجامەكانى بۇ ئەو بابەتانەى كە زۆر نزيك و هاوشىۋەى بابەتى تويژىنەوہكەن گەشتاندىن بكەين .

۳- پىۋىستە ئەو كەسانەى چاوپىكەوتن ئەنجام ئەدەن لە ئەنجامدانى چاوپىكەوتن شارەزا و لىزان بن چونكە چاوپىكەوتن كاريكى هونەرى و تەكنىكىيە و ھەموو كەسىك ناتوانىت ئەنجامى بدات .

۴- ھەندىك جار بەھۆى ئەو پەيوەندىيەى كە پىشتر لە نيوان تويژەر و ۋەلامدەرھەبووہ يان دواتر دروست ئەبىت لەوانەيە ۋەلامەكانى ۋەلامدەر تىكەل بە ھەست و دۆستايەتى بىت و ھەولبدات ۋەلامىك بداتەوہ كە بە دلى تويژەر بىت ھەر چەندە كە ۋەلامدەر خۆيشى برواى بە ۋەلامەكەى خۆى نەبىت .

۵- لەبەر ئەوہى شىۋازى چاوپىكەوتن نەرمى و سازگاريەكى زۆرى تىدايە (ۋەكو لاستىكە) ئەگەرى ئەوہ ھەيە كە تويژەر و ابىر بكاتەوہ كە دەتوانىت ھەموو جۆرە پرسىارىك بخاتە روو ھەروہا ۋەلامدەرش و ابىر بكاتەوہ دەتوانىت ھەموو شتىك باس بكات . ئاشكرايە ئەم جۆرە بۇچوونە كۆكردنەوہى دروستى زانىارىيەكان تووشى ئالۆزى دەكات .